

ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن (ڈی پی سی) نے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ڈپازٹ انشوررز کی رکنیت حاصل کر لی

انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ڈپازٹ انشوررز (IADI) کے سیکریٹریٹ نے 11 فروری 2019ء کو اعلان کیا ہے کہ اس کی ایگزیکٹو کونسل نے ڈپازٹ کارپوریشن آف پاکستان کو آئی اے ڈی آئی کے رکن کی حیثیت سے قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈی پی سی (DPC) ڈپازٹس کا بیمہ کرنے والوں کی عالمی تنظیم کا 84واں رکن ہے جس کا مقصد رہنمائی کی فراہمی اور بین الاقوامی تعاون میں اضافے کے ذریعے ڈپازٹ کے بیمہ کی اثرائتگی اور حفاظت میں اضافہ کرنا ہے۔

آئی اے ڈی آئی ایک غیر نفع بخش تنظیم ہے جس کا قیام بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس (BIS) کے تحت 2002ء میں عمل میں لایا گیا تھا۔ آئی اے ڈی آئی دنیا بھر کے بیمہ کاروں کا فورم ہے جہاں پر وہ جمع ہو کر معلومات اور مہارت کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ تنظیم تربیت اور تعلیمی پروگراموں کی پیشکش اور ڈپازٹ کے بیمہ (جو ڈپازٹ پروٹیکشن کے نام سے بھی مشہور ہے) سے متعلق مسائل پر تحقیق اور رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ آئی اے ڈی آئی عالمی تنظیموں سے فعال اشتراک کرتی ہے جو مالی استحکام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان اداروں کے تعاون سے ڈپازٹ بیمہ کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔

آئی اے ڈی آئی کی رکنیت سے ڈپازٹ کارپوریشن آف پاکستان کو اپنی ادارہ جاتی استعداد کاری میں مدد ملے گی اور ڈپازٹ کے عالمی بیمہ کاروں سے وسیع تر تبادلہ خیال کے ذریعے ان کے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس سے ”مالی نظام کے استحکام کو تقویت دینے“ کے تزویراتی مقصد کے حصول میں بھی مدد ملے گی، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 2016ء تا 2020ء کے تزویراتی منصوبے (Strategic Plan) کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے۔

ڈی پی سی کا قیام اسٹیٹ بینک (ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ایکٹ 2016ء) کی مکمل ملکیت والے ذیلی ادارے کے طور پر عمل میں لایا گیا ہے، جس کا مقصد چھوٹے اور مالی لحاظ سے سادہ ڈپازٹوں کے ڈپازٹس کے تحفظ کی حد تک تلافی کرنا ہے۔